

صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا

اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی چیمبر پشاور میں بروز منگل مورخہ 18 مارچ 2014ء بمطابق 16 جمادی الاول 1435ھ، بجری بعد از دوپہر تین بجکر دس منٹ پر منعقد ہوا۔
جناب سپیکر، اسد قیصر مسند صدارت پر متمکن ہوئے۔

تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَلَا تَكْسِبُ
كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ۔

(ترجمہ): کہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے (یعنی دین صحیح) مذہب ابراہیم کا جو ایک (خدا) ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے (یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کیلئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں۔ کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی (برا) کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ وَاخِرُ الدَّعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اراکین کی رخصت

جناب سپیکر: جزاکم اللہ۔ یہ کچھ ہمارے معزز ممبران کی چھٹی کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں: جناب ملک ریاض خان صاحب، ایم پی اے 18-03-2014; جناب صالح محمد صاحب، ایم پی اے 18-03-2014; جناب سردار ظہور صاحب، ایم پی اے 18-03-2014; جناب افتخار مشوانی صاحب، ایم پی اے 18-03-2014 آیا چھٹی کی درخواستیں منظور ہیں؟

(تحریک منظور کی گئی)

توجہ دلاؤ نوٹس

Mr. Speaker: Madam Najma Shaheen, MPA, to please move her Call Attention Notice No. 263, in the House. Najma Shaheen.

محترمہ نجمہ شاہین: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکریہ جناب سپیکر صاحب۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ کوہاٹ کی 10 فیصد گیس رائلٹی جو کہ سالانہ تقریباً ساٹھ ستر کروڑ روپے بنتی ہے، کوہاٹ کو دی جاتی ہے، حکومتی اراکین نے آپس میں تقسیم کر کے کوہاٹ کے اہم ترقیاتی کاموں کو، منصوبوں کو پس پشت ڈال کر چھوٹی چھوٹی گلیوں، نالیوں اور پریشر پمپ پر خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ کوہاٹ میں صحت کے مراکز مثلاً وہیمین اینڈ چلڈرن ہسپتال کی خستہ حالی، ڈوریشنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سی ٹی سکین اور ایم آر آئی مشین جیسی اہم سہولیات کی عدم موجودگی اور Heart کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ لہذا اس رقم کو چھوٹے چھوٹے منصوبوں پر خرچ کرنے کی بجائے صحت اور تعلیم کے میگا پراجیکٹس پر خرچ کیا جائے، اس میں خاص عوامی مفاد ہے اور اس مسئلے کو بحث کیلئے منظور فرما کر مشکور فرمائیں۔

جناب سپیکر: کوہاٹ کی کوئی؟ جی جی، میڈم!

محترمہ دیناناز: شکریہ سپیکر صاحب۔ میڈم نجمہ نے جو یہ پوائنٹ اٹھایا ہے گیس رائلٹی فنڈ کے حوالے سے، یہ گیس رائلٹی فنڈ کوہاٹ ڈوریشن، ڈسٹرکٹ کرک اور کوہاٹ دونوں میں ہے اور اس کیلئے فنانس کی طرف سے ایک پروسیجر ہے کہ جو متعلقہ ڈسٹرکٹس کے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ان کا کوئی شیئر کچھ اس ترتیب سے اس کو Distribute کیا ہوا ہے، Divide کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق اس پر ڈسٹرکٹ کے ڈیویلمینٹ کام ہوتے ہیں اور ان کا یہ بہت اچھا وہ ہے، نوٹس میں لانے کیلئے کہ اس پر بڑے بڑے میگا پراجیکٹس ہونے چاہئیں لیکن ابھی اس وقت، Currently اس فنڈ سے جو کام ہو رہا ہے ایم پی ایز کے

حوالے سے، یہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ متعلقہ ایم پی ایز نے تقسیم کیا ہے، یہ ایم پی ایز نے تقسیم نہیں کیا ہے، یہ فنانس کی طرف سے ایک ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے، یہ اس کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ابھی اس پر کام ہو رہا ہے، میں خود بھی کوہاٹ کی ہوں، یہ وہاں ان علاقوں میں کام ہو رہا ہے، اگر نالیاں بن رہی ہیں، فرض کریں Street pavement بن رہے ہیں، وہاں Immediate need ہے، Immediate need کی Basis پر بن رہے ہیں، step by step، ہاسپٹلز کی بھی چیزیں آئیں گی اور میگا پراجیکٹس بھی اچھا مشورہ ہے، میگا پراجیکٹس پر بھی کام ہوگا لیکن جو Immediate needs ہوتی ہیں تو ہمارے ایم پی ایز اس کے مطابق علاقے کے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو بات ہے ناکہ متعلقہ ایم پی ایز نے آپس میں تقسیم کیا ہے، یہ انہوں نے خود تقسیم نہیں کیا ہے، یہ فنانس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اس کیلئے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے، اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ تھینک یو۔

مفتی سید جانان: جناب سپیکر صاحب۔

جناب سپیکر: مفتی صاحب! لبرہ گزارہ بہ کو پی۔

مفتی سید جانان: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر صاحب! دا گیس رانلتی چپی خومرہ دہ، دا دھغی غریبو حلقو چپی اللہ رب العالمین ہغوی تہ دا گیس یوہ خزانہ ور کروی دہ۔ جناب سپیکر صاحب، دا فیصلہ کہ ہرچا کروی وی او ہر حکومت کروی وی، دیرہ صحیح فیصلہ او بر وقت فیصلہ شوپی دہ، ہغہ خککہ حکومتونو کبئی جناب سپیکر صاحب! یور وایت راوان دے چپی د چا وزیر وی او د کومپی حلقو مشران وی، ہغی حلقو تہ خو خہ ملاؤ شی خو نورو حلقو تہ حکومت ہیخ خہ توجہ نہ ور کوی جناب سپیکر صاحب، خو دغہ بارہ کبئی بہ زما یو گزارش دا وی چپی خومرہ پیسپی خرچ کیری، دیکبئی پانچ فیصد پیسپی د ایم پی اے گانو پہ مشورہ باندپی خرچ کیری او پانچ فیصد پیسپی ہغہ داسپی وی چپی دھغی نہ ایم پی اے گان نہ وی خبر، مطلب دا دے ہغوی پراجیکٹ ورباندپی کوی، کالجونہ جو روی، خیزونہ، خہ شے ورباندپی جو روی خو جناب سپیکر صاحب! لکہ خنگہ دا پینخہ فیصدہ د ایم پی اے گانو پہ مشورپی باندپی تقسیمیری، ہم دغہ شان دے دا نورے پینخہ فیصدہ مطلب دا دے چہ د ایم پی اے

گوانو په مشورے باندے تقسیمیری دے کبني به د خلقو محرومی نه رسی، حلقې به نه محرومه کیږی۔ جناب سپیکر صاحب، زه به د تیر حکومت خبره درته او کړم، زما ضلعې ته تقریباً سوله کروړ روپې ملاؤ شوې دي، سوله کروړ روپې، آتھ کروړ د حلقه 42 رسیدلې دي او اته کروړه د حلقه 43 رسیدلې دي۔ هغې کبني جناب سپیکر صاحب! مونږ ته چار چار کروړ روپې ملاؤ دي، آتھ کروړ روپې د سن 2009 او 2010 نه تقریباً یا 11-2010 نه تر اوسه پورې پرتې دي، هغه ایجوکیشن او د فنانس ډیپارټمنټ خپل مینځ کبني ورباندې لانجه ده۔ تیر حکومت کبني هوتی صاحب هغوی ته یوه ډائریکتیو ایشو کړې وه چې دا به رئیسانو کبني به په دې باندې کالج جوړیږی، محکمې والا ورته وئیل چې د کالج ځانې صحیح نه دے، دلته کبني مطلب دا دے کالج نه جوړیږی۔ زما د ضلعې آتھ کروړ روپې دا څلورم کال دے اوسه پورې پرتې دي، نو سپیکر صاحب! زما به دا گزارش وی چې دا د دغې خلقو د غریبانو خلقو وینې وازدې دي، د غریبانو خلقو پیسې دي، دا د دغه خلقو ته په صحیح طریقې باندې، په دې باندې سیاست نه دے پکار، په دې باندې دا نه دی پکار چې دا د چا حکومت دے او دا د چا حکومت دے، دا د دغې خلقو حق دے، جناب سپیکر صاحب! دغه خلقو ته دا حق رسول پکار دی او په دې باندې مطلب دا دے سیاست کول نه دی پکار۔ او بی بی چې کومه خبره او کړه سپیکر صاحب! زه به دا وایم دې نه خطا ډیرې پیسې دي، کیس بونس دے، کیس بونس هم مطلب دا دے د عامو خلقو مفادو کبني داسې نه استعمالیږی چې هغې نه خلقو ته څه فائده اورسی، کله یو کار ورسره کیږی او کله بل ورسره کیږی، کله بل ورسره کیږی او د دې نه خطا به مو دا گزارش وی چې کومې اضلاع چې هغې صوبې ته سالانه کروړونه، اربونه روپې آمدن ورکوی، د هغې ضلعو دې یو خاص خیال اوساتلے شی ځکه چې که نن مونږ ته الله گیس را کړے دے، تیل را کړی دی او دې صوبې ته اربونه روپې سالانه ملاویږی، دا دغه اضلاع مهربانئ ده او د دغه اضلاع د وچې نه مونږ ته ملاویږی، نو بیا پکار دا ده چې اے دی پی کبني هم مونږ د دغه محرومو ضلعو او د دغه خلقو لږ خیال ساتو۔ مهربانی، سپیکر صاحب۔

جناب سپیکر: مفتی صاحب، دیکھنی تاسو خود غه اوکرو، چونکہ Concerned MPAs حوالی سره تاسو اووئیل چہ یو پروسیجر جوڑ شوے دے، بنہ خبرہ بہ دا وی چہ تاسو یو Proposal باقاعدہ خپلو کبہنی تاسو Concerned MPAs کبہنی، یو Proper Proposal حکومت تہ ور کړئ او حکومت بہ ہغہ بانڈی بیا یو خپل دغہ ور کړی، ہغہ د پارہ، زما خیال دے دا بہ کافی وی دہ د پارہ چہ تاسو خپلہ ایم پی ایز خپلو کبہنی کینئ او یو Proposal دہ بانڈی Proper جوڑ کړئ چہ دا پروسیجر دے چہ دا تہیک دے، غلط دے چہ خہ ہم وی، حکومت سرہ ہغہ شیئر کړئ تاسو۔

مفتی سید خانان: جناب سپیکر صاحب! مخکبہنی نہ جی دا یو جنوبی اضلاع تہ نہ دہ، دا چہ کومہ اضلاع گیس پیدا کوی او کومہ اضلاع تمباکو او د تمباکو رائلتی ورتہ ملاویری، چاتہ د بجلئ رائلتی ملاویری، ہغہ د دغہ ټولوایم پی اے گانو مسئلہ دہ۔ جناب سپیکر صاحب، زہ بہ بیا دا گزارش او کرم چہ پہ پردو پیسو بانڈی مونر تہ سیاست کول نہ دی پکار، کہ صوبہ کومہ ضلع وی، اوس صوبہ ضلع دہ، ستاسو صوبہ ضلع دہ، تربیلہ ډیم نہ ټولو نہ زیاتہ صوبہ متاثرہ دہ نو بیا پکار دہ چہ کوم د بجلئ پیسہ ملاویری، ہغہ بیا پکار دہ چہ د صوبہ د منتخب نمائندہ پہ خوبنہ بانڈی اولگیری۔ چارسدہ تمباکو ورکوی، د تمباکو ہغوی تہ پیسہ ملاویری بیا پکار دا دہ چہ د چارسدہ ایم پی ایز د کبہنی، د ہغوی پہ Through بانڈی د دا دس فیصد اولگیری۔ د کرک او د ہنگو، د کواہت ایم پی اے گان د کبہنی چہ ہغوی تہ گیس او آئل مد کبہنی کومہ پیسہ ملاویری، ہغہ د د ہغوی پہ مشورہ بانڈی اولگولہ شی۔ جناب سپیکر صاحب، دیکبہنی اکثر داسہ اوشی، وزیر اعلیٰ ڈائریکٹیو ور کبہنی ایشو کړی، پانچ فیصد خو مونر تہ ملاؤ شی او باقی کومہ پانچ فیصد روپی وی، ہغہ دغہ خلقو تہ ملاؤ نشی، ہغہ د خپلو مفاداتو د پارہ یو مخصوص خاٹی کبہنی اولگولہ شی جی۔

جناب سپیکر: جی۔ زما خیال دے چہ دہ بانڈی تاسو یو Proper خپلو کبہنی کبہنی، یو Procedure adopt کړئ، حکومت سرہ شیئر کړئ، ہغوی سرہ نوان شاء اللہ تعالیٰ چہ دا کوم Concerns دی، دا بہ دہ سرہ ختم شی۔ Next ji۔

جناب منور خان ایڈوکیٹ: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: دی سرہ Related سپلیمنٹری کوئسچن دے؟

جناب منور خان ایڈوکیٹ: نہیں سر، Related نہیں ہے لیکن دوسرا پوائنٹ ہے۔

جناب سپیکر: چلو اس کے بعد آپ کو میں ڈیپٹ میں، مولانا مفتی فضل غفور، ایم پی اے۔ اچھا یہ Lapsed ہے، وہ نہیں ہیں۔ اچھا جی۔

مسودہ قانون (ترمیمی) خیبر پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی مجریہ 2014 کا متعارف کرایا جانا

Malik Amjad Afridi, honorable Special Assistant for Housing Department, to please introduce before the House, the Khyber Pakhtunkhwa, Housing Authority (Amendment), Bill 2014.

جناب سکندر حیات خان: دا ایجنڈہ کبھی خو نشتہ دے۔ ایجنڈہ کبھی نشتہ دے۔

جناب سپیکر: عارف یوسف، عارف یوسف۔ اس کا آج اضافی ایجنڈا ایشو ہوا ہے۔ سیکرٹری صاحب! ایک منٹ، ایک منٹ، اضافی ایجنڈا ابھی تقسیم ہوا ہے، آپ کے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، چیک کر لیں اس کو، ٹھیک ہے جی؟ عارف یوسف صاحب۔

Mr. Arif Yousuf (Parliamentary Secretary for C & W): Thank you, Mr. Speaker. On behalf of the honorable Chief Minister, I beg to introduce the Khyber Pakhtunkhwa, Housing Authority (Amendment) Bill, 2014, in the House.

Mr. Speaker: It stands introduced.

مسودہ قانون کا زیر غور لایا جانا

(خیبر پختونخوا فارم سروسز سنٹر مجریہ 2014)

Mr. Speaker: Honorable Minister for Agriculture, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his motion for consideration of the Bill. Honorable Minister for Agriculture.

جناب شہرام خان {سینیئر وزیر (زراعت)}: مہربانی سپیکر صاحب۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa, Farm Services Center Bill, 2014, may be taken into consideration at once. Thank you, ji.

Mr. Speaker: The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa, Farm Services Center Bill, 2014, may be taken into

consideration at once? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. Since no amendment has been moved by any honorable Member in the Clauses 1 to 16 of the Bill, therefore, the question before the House is that Clauses 1 to 16 may stand part of the Bill? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. Clauses 1 to 16 stand part of the Bill. Long Title and Preamble also stand part of the Bill.

مسودہ قانون کا پاس کیا جانا

(خیبر پختونخوا فارم سروسز سنٹر مجریہ 2014)

Mr. Speaker: Passage Stage: Honorable Minister for Agriculture, to please move for passage of the Bill.

Mr. Shahram Khan {Senior Minister (Agriculture)}: Thank you, Janab Speaker. I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa, Farm Services Center Bill, 2014, may be passed please.

Mr. Speaker: The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa, Farm Services Center Bill, 2014, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The Bill is passed.

(Applause)

مسودہ قانون کا زیر غور لایا جانا

(خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی مجریہ 2014)

Mr. Speaker: Honorable Minister for Health, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his motion for consideration of the Bill. Honourable Minister Health.

جناب شوکت علی یوسفزئی (وزیر صحت): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خیبر پختونخوا سیفٹی اتھارٹی بل،

2014 کو فوری طور پر زیر غور لانے کیلئے تحریک پیش کرتا ہوں۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa, Food Safety Authority Bill, 2014, may be taken into

consideration at once? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those who against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. (Applause) 'Consideration Stage': Since no amendment has been moved by any honourable Member in Clauses 1 to 53 of the Bill, therefore, the question before the House is that Clauses 1 to 53 may stand part of the Bill? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. (Applause) Clauses 1 to 53 stand part of the Bill. Long Title and Preamble also stand part of the Bill.

(Pandemonium)

جناب سپیکر: او، او، سردار حسین بابک۔

جناب سردار حسین: شکریہ سپیکر صاحب، شکریہ سپیکر صاحب۔ زما دا خیال دے چي مونر مخکبني هم تاسو ته گزارش کرے وو، خصوصاً سپیکر صاحب! تاسو ته او بيا مونر حکومت ته هم دا ریکویسٹ کرے وو، دا خواست مونر کرے وو چي دا اوگورئ دا د اسمبلی دا توله کارروائی چي ده، دا په ریکارڈ باندې راخی او زما یقین دا دے چي مونر نن دلته پاخو او دا پوائنٹ آؤٹ کوؤ، نو دا یواغی زمونر ذمه داری نه جوړیږی، دا په دې آگسٹ هاؤس دا تول چي کوم نن ورغ ده، د هغوی ذمه واری جوړیږی۔ سپیکر صاحب! مونر په دې خبره نه پوهیږو چي دا آگسٹ فورم چي دے، دا د دې تولې صوبې د پاره قانون سازی کوی او زمونر ستاسو که ورته دا Smooth functioning وائی په هغې کبني که مونر Interference کوؤ، په دې نیت او په دې غرض باندې کوؤ چي مونر نه پوهیږو چي د دنیا په یو پارلیمان کبني، په یوه اسمبلی کبني قانون چي دے، هغه په داسې طرز باندې چي پاس کیږی، مونر خو په دې خبره نه پوهیږو، په دیکبني خو Logic نشته، دا څنگه خبره چي اوس سپیکر صاحب! چي د Yes او د No په بنیاد باندې د سیکشن 1 نه واخلئ تر Sixty پورې یا د سیکشن 1 نه واخلئ تر Forty پورې چي 'Yes' Those who are in favour of it may say او که Against وی نو No، زمونر خو خواهش او گزارش دا دے چي دا کومه قانون

سازی یا دا کوم بلونه حکومت راوړلی دی، پکار دا ده چې Section by section هغه دا هاؤس چې دے دا په اعتماد کښې واخلي. اوس که زه دا تپوس او کړم د اپوزیشن د ملگرو نه هم، نو پته نه لگی چې یو سیکشن نه واخلم تر Forty پورې پکار دا ده چې دا Section by section باندې، بیا که تاسو پاس کوئ بېشکه په دیکښې مونږ دا یو، خو دا خبره په ریکارډ ځکه راوړلو چې مونږ خو دا منو چې دلته د حکومت عددی شماره چې ده، هغې سیوا ده او تاسو دا څیزونه بلډوز کولې شئ خو دا طریقه چې ده، زما یقین دا دے، دا د دې هاؤس د پاره بالکل مناسب نه ده. زمونږ خو به یو دا خواست وی حکومت ته چې کوم Bill passing stage ته راشی، پکار دا ده چې سیکشن وائز هغه په دې هاؤس کښې هغه اووائی او ټول هاؤس په هغې کښې په اعتماد کښې واخلي، د هغې خو دا مطلب نه دے چې حکومت د بعضې بلونو په حمایت کښې وی او اپوزیشن چې دے، هغه د Passing په حمایت کښې مونږ نه یو، خو چې دا کوم طریقه کار دے، دا بالکل د دې هاؤس چې دے دا مناسب نه دے. سپیکر صاحب! زمونږ تاسو ته دا گزارش دے چې دا دا هیڅ کریډټ نه دے چې حکومت د ځان په سائډ کښې دا کریډټ اخلي چې مونږ ډیره قانون سازی او کړه، دا مونږ منو چې تاسو به ډیر بلونه پاس کړئ خو زما یقین دا دے، دا د دې میدیا ملگرو ته هم زمونږ دا خواهش دے او زمونږ خوا کښې دی، دا په ریکارډ باندې راوړئ او دا به د اسمبلی په ریکارډ باندې راځی، دا په کومه طریقه باندې چې تاسو بلونه بلډوز کوئ، دا د دې صوبې د پاره، بالکل دا د دې صوبې په مفادو کښې نه ده. لهندا اول خو پکار دا ده چې کوم Bill حکومت راوړی چې هغه کمیټی ته لار شى یا ورته لار نشى، د هغې د پاره اوپن فورم جوړ شى، سول سوسائټی ته اوپن شى، میدیا ته اوپن شى، دا چې کوم سټیک هولډرز دی چې هغوی ته اوپن شى چې د هغوی پرې Input راشی او بیا دا آگست هاؤس نه چې نن دلته زمونږ Yes او No چې دے، هغه Count کیږی، زمونږ اقرار او زمونږه انکار چې دے، هغه په ریکارډ باندې راځی، زمونږ انکار په دې بنیاد باندې نه دے چې مونږ د بلونو خلاف یو، زمونږه انکار په دې بنیاد باندې دے، دا کوم طریقه کار چې دې نوے

حکومت راوستے دے، دا د دې صوبی رواج نہ دے، دا د دې صوبی روایات نہ دی، نو دا د دې اسمبلی د پارہ مناسب نہ دے جی۔

جناب سپیکر: سکندر خان! میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس میں دیکھیں آپ کی جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں، اس کو Properly entertain کیا گیا ہے، Next جو بلز آرہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی امینڈمنٹ آپ لوگوں نے Propose نہیں کی تھی تو اسلئے میں بالکل قاعدے کے مطابق ہاؤس چلاؤں گا اور میرے لئے سارے برابر ہیں۔ میں جس سیٹ پر بیٹھتا ہوں، میرے لئے سارے برابر ہیں اور جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، میں اس کو دیکھوں گا۔ سکندر خان۔

جناب سکندر حیات خان: جناب سپیکر! زہ ستاسو مشکوریم چپی تاسو موقع را کپہ۔ مونر د پارہ دا ہاؤس ہم د دې یو خیل اہمیت دے، ستاسو د کرسٹی ہم یو خیل اہمیت دے جناب سپیکر، پہ دې خانی کبنی د ہر ممبر Conduct چپی دے، ہغہ د اسمبلی د Conduct سرہ ترلے کپری، کہ مونر د دې اسمبلی عزت اونکرو، مونر د دې فورم عزت اونکرو نوزما خیال دے نور بہ ئے ہم شوک عزت نہ کوی۔ جناب سپیکر! کہ تاسو او گورئی ولپی لیجسلیشن راوستلے کپری اسمبلی تہ او پہ ہغی بانڈی بحث ولپی ایبنودلے شوے دے؟ کہ ہم دا ئے صرف دغہ وے چپی یرہ حکومت د Bill جو رووی یا لاء د جو رووی، نو بیا خوبس ہغوی سرہ اختیار وو، ہغوی بہ آرڈی نینسز کولے، ہغوی بہ یو Bill جو رولے او بس ہغی بانڈی ہڈو بحث کولو خبرہ نہ وہ۔ د دې بنیادی مقصد دا دے چپی Collective wisdom خبرہ وی، ہغی کبنی بہ کیدی شی بعضی یو پوائنٹ بہ ستاسو بنہ وی، بعضی یو پوائنٹ بہ د اپوزیشن د ممبرانو پہ ذہن کبنی داسپی وی چپی ہغہ بہ یو صحیح دغہ کبنی وی، دا قانون سازی مونر صرف د یو کال د پارہ نہ کوؤ، یو میاشت د پارہ نہ کوؤ، دا د تولپی مودپی د پارہ، تول عمر د پارہ یو قانون سازی دہ۔ سبا، نن نہ لس کالہ پس، شوک کہ د دې اسمبلی کارروائی را او چتہ کپی یا یو قانون را او چتہ کپی او بیا دا اووائی چپی یرہ د ہغہ وخت اسمبلی دا خنگہ قانون پاس کرے دے، دیکبنی خو دا لیکنہ دہ، دیکبنی خو دا لیکنہ دہ، نو ہغہ بہ پہ مونر تولو بانڈی بہ Reflect کوی۔ جناب سپیکر! زمونر بنیادی مقصد دا دے چپی لڑ بہ پہ حوصلہ بانڈی کوؤ او پہ ہغی کبنی بہ د دې ہاؤس عزت ہم جو رپری، پہ ہغی کبنی بہ د دې حکومت عزت ہم جو رپری، د دې اسمبلی عزت او وقار بہ

بحال کیبری جناب سپیکر، نو پہ دغی حوالی سرہ مونر دا دغہ کوؤ چہ کم از کم یو Section by section چہ دے، ہغہ د واخستلے شی او تہول د پہ اعتماد کبہی واخستلی شی۔

جناب سپیکر: زہ سکندر خان! بالکل یو خوزہ بالکل دا دہی تہولو تہ دا یقین دہانی ورکوم چہ خومرہ ہم مونر خیل پروسیجر چلوؤ نو According to Act بہ ئے چلوؤ او اوسہ پورہی یو امنڈمنٹ ستاسو پہ دہی دغہ کبہی نہ دے مونر تہ Propose شوے، د دہی نہ پس چہ کوم راغلی دی، ہغہ مونر اخستی دی According to procedure، چہ خہ دے، ہغہ مطابق مونر کوؤ۔ پہ دہی باندہی زہ چہ دلته پہ دہی سیٹ باندہی ناست یم، زہ د دہی تہولی اسمبلی سپیکر یم او ہغہ مطابق بہ چہ دے نو زہ دغہ کوم۔ ایوان میں سارے فیصلے آئین کے مطابق ووٹنگ کے ذریعے کئے جاتے ہیں، لہذا میں توہر موشن کو ایوان میں پیش کرتا ہوں اور ایوان سے رائے لیتا ہوں، اگر آپ کسی کلاز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔

محترمہ انیسہ زیب طاہر خیل: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: جی میڈم!

محترمہ انیسہ زیب طاہر خیل: شکریہ جناب سپیکر۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ کے پاس ہمارے قوانین اور اسمبلی کے جو ضوابط ہیں، اس کے تحت مکمل اختیارات ہیں، سپیکر اگر چاہے تو ہاؤس کو وہ اکیلی ذات پر ہی، ہر چیز کو جاسکتا ہے لیکن ایوان کے کسٹوڈین ہونے کے ناطے، اور لیجسلیشن کو دیکھ کر کہ کسی طریقے سے تمام ایوان کی Involvement سے وہ، بیشک اس میں امنڈمنٹس نہیں آئیں، آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن آپ Rule 85 دیکھیں، اس میں ہم جنرل بحث، Even آپ کی جو Rule 82 کے تحت موشرز ہیں، اس کے بعد بھی کوئی ممبر اٹھ کے اس کی Generality پہ کولسجین کر سکتا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اور کوئی Offence نہیں ہے، کوئی Malice نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے کان بند کر کے موشرز دیں اور ہماری آوازوں کو بھی نظر انداز کیا، تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ شاید اس لیجسلیشن میں آپ نے بھی ایک Role ادا کرنے کی کوشش کی ہے جناب سپیکر! کہ جلد از جلد یہ آج ہو۔ صرف امنڈمنٹس کی حد تک نہیں، Generality پہ ہم کسی بھی ٹائم پہ، Even اس موشن کے بعد جبکہ وہ جو انچارج ہے، ممبر انچارج، وہ اگر Consideration کیلئے موؤ بھی کرے، اس کے بعد بھی ہم اس کی Generality پہ بات کرنے

کیلئے موشن پیش کر سکتے ہیں۔ یہ لیجسلییشن ہے جناب سپیکر، اس کو اگر آپ بلڈوز کریں گے تو جس طرح Justice rushed is like تو Justice ہے، جو Justice is like law or legislation، تو میرا مقصد ہے justice crushed and justice hurried is like justice buried، تو میرا مقصد ہے کوئی جلدی نہیں ہے، جہاں اتنی ہوئی تو اگر ایک موشن پہ ممبران اور خاص طور پہ اپوزیشن کی، سچے سے یہ بات آرہی ہے تو اس کو سننے میں کیا جلدی ہے؟ حکومت Knows کہ آج تعداد پوری ہے، زیادہ تعداد ہے وہ چاہیں تو صرف اس بات پہ بھی جاسکتے ہیں لیکن یہ Important laws ہیں اور جس طریقے سے Bombardment ہے لیجسلییشن کی، پندرہ قوانین کل وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم چند دنوں میں پیش کر رہے ہیں، کسی کے پاس اتنا ریڈنگ ٹائم بھی ہے؟ جبکہ آپ بیچ میں ساتھ برس بھی اٹھا کے جا رہے ہیں، یعنی اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ آپ کے ممبران Laws کو ڈیٹیل سے پڑھیں جبکہ یہ فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہے، یہ فارم سنٹرز کے حوالے سے ہے، آپ خود یا ممبران چارج کو چاہیے تھا کہ وہ خود سلیکٹ کمیٹی کو بھیجتے تاکہ وہاں پہ اس کا Threadbare analysis ہوتا اور موشن اس چیز کیلئے آتی۔

Laws پاس ہو جائیں گے اور پاس ہوتے بھی رہے ہیں، Laws پر من و عن عمل درآمد نہیں ہوگا، تو اس چیز کی میں سمجھتی ہوں ذمہ داری بھی اس ایوان پر ہے، اسلئے اس چیز پر آپ Rush نہ کریں، اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو مکمل طور پہ پورے ایوان کو ساتھ لیتے ہوئے یہ لیجسلییشن کی جائے۔

جناب سپیکر: شاہ فرمان خان!

جناب شاہ فرمان (وزیر اطلاعات): شکر یہ جناب سپیکر۔ یہ نکتہ جو اپوزیشن نے اٹھایا، اس سے پہلے جو اس کو لیسن گورنمنٹ کے منشور کے مطابق جتنی بھی امینڈمنٹس آئیں، ان میں سب سے Important Amendments، لوکل باڈیز، احتساب کمیشن، آرٹی آئی یہ ساری چیزیں Atlength discuss کر چکے ہیں ہم اور In principle یہ بات صحیح ہے کہ جو اپوزیشن کا نقطہ نظر ہے اور اسمبلی کے اندر ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ حکومت تبدیلی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور اس کیلئے ہمیں بہت زیادہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور خاص کر وہ قوانین کہ جو ہم Table کریں اور اس کے اوپر امینڈمنٹس بھی نہ آئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو Important legislation اور جو اپوزیشن سمجھتی ہو کہ اس کے اندر ڈبیٹ ہونی چاہیے، وہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، کمیٹی کے حوالے بھی کر چکے ہیں (تالیاں) اور ایک ایک، ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ اس کے اوپر Atlength discussion ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک

سال پورا ہونے والا ہے تو اگر کوئی ایسی قانون سازی کہ جس کے اندر زیادہ Communications ہوں اور اپوزیشن امنڈ منٹس بھی Introduce نہ کرانے تو وہ اگر ہم جلدی سے پاس کرائیں تو جو آگے Hurdles ہیں یا جو گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں گے، اس میں کوئی بدینتی جناب سپیکر! شامل نہیں ہے۔ کوئی اگر Written amendment اس کے اندر نہیں ہے تو In principal تو ٹھیک ہے بات ان کی، لیکن وہ Timeline decide کرنا، کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا اور ابھی تک جو قانون سازی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکوہ اپوزیشن کا کہ ٹائم نہیں دیا جا رہا تو Important legislation کے اوپر بہت زیادہ ڈیبٹ ہو چکی ہے، آئندہ بھی کریں گے لیکن اس کے اندر Delicate balance قائم کرنا چاہیے کہ نہ قانون سازی اتنی Delay ہو کہ گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے، اس کے اوپر اثر پڑے اور اس کے اندر Important legislation کے اندر اتنی Haste بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم تھا تو Important legislation کے اوپر اتنی At length discussion ہو چکی ہے تو اگر ایک آدھ دو تین قوانین جو حکومت چاہتی ہے کہ وہ جلدی سے پاس ہوں تاکہ منشور کے اوپر اور پروگرام کے اوپر جلدی سے عمل ہو تو اپوزیشن سے یہی توقع ہے جناب سپیکر! کہ وہ اس میں Cooperate کرے ہمارے ساتھ۔ شکریہ، جناب سپیکر۔

جناب سپیکر: جی سردار صاحب۔

جناب سردار حسین: شکریہ سپیکر صاحب۔ سپیکر صاحب! خنگہ چپی منسٹر صاحب خبرہ او کولہ، زہ دا گنرم چپی د دے Deadline، د دے ٹائم نہ بہ راوتل غواہی او زما بہ گزارش وی حکومت تہ چپی دا د اولنی ورخے نہ دا چپی کوم د Deadline پہ پالیسی باندی دا حکومت روان دے، دا بالکل مناسبہ خبرہ نہ دہ۔ زہ بالکل د منسٹر صاحب دے خبری سرہ اتفاق نہ کوم چپی بعضی قانون سازی داسی دہ چپی کہ ہغہ دیرہ زیاتہ اہمہ وی نو پہ ہغی باندی د سکشن پکار دے، چپی کلہ مونبر نوم د قانون سازی اخلو، چپی کلہ مونبر قانون د صوبی د پارہ جو روؤ، زہ دا نہ گنرم چپی بیا دا Specify کول پکار دی چپی دا قانون چپی دے دا اہم دے، دا دیر اہم دے او بل قانون مونبر جو رو دا اہم نہ دے یا دا لراہم دے۔ سپیکر صاحب! زمونبر پہ دے خبرہ او زمونبر پہ دے نکتہ باندی د حکومت خککہ بد نہ گنری چپی مونبر گزارش کوؤ بیا بیا چپی دا ہاؤس چپی دے، زمونبر خو دا اہم

گزارش دے چي کله د قانون ډرافټنگ کيږي، په هغې باندې نشست درنشت پکار دے، دا قانون چي مونږ جوړوؤ، دا خو مونږ د 124 ممبرانو د پاره نه جوړوؤ، دا خو مونږ د دوه کروړو عوامو د پاره جوړوؤ، که د زراعت سره Related مونږ يو قانون جوړوؤ، پکار دا ده چي د زراعت سره متعلقه چي څومره سټيک هولډرز دي، که زه دا تپوس او کرم چي د زراعت په معامله باندې په دې هاؤس کبني څومره خلق، څومره ملگري پوهه دي؟ دا خو به مناسب نه وي سپيکر صاحب! پکار دا ده چي حکومت د دې نه دا نا مسئله جوړوي چي د دې نه دا نا مسئله جوړه نه کړي۔ مونږ گزارش دا کوؤ چي دا کوم طريقه کار دے يا کوم طريقه واردات دے، دا د دې صوبې د پاره په يو شکل باندې او زه مثال درکوم سپيکر صاحب! د احتساب 'بل' تيار شوي دے، د احتساب 'بل' د دې هاؤس نه پاس شوي دے او تاسو او گوري، مونږ څلور ميټنگونه او کرل او هغه هلته کبني خلق انخبنته دے، هغه هم د Deadline خبره وه چي شابه دا قانون پاس کړي، شابه دا قانون پاس کړي، هغه قانون پاس شو، قانون مونږ پاس کړو، د دې اسمبلي په ریکارډ باندې راغلل۔ دلته خلق راځي ريسرچ کوي، زمونږ په قانون سازي باندې Thesis ليکي، ډير لوټي لوټي کتابونه پرې ليکي چي کله دا پروسيجر، دا Conduct په دې شکل باندې چي مونږ 'بل' پيش کوؤ او 'بل' پاس کوؤ، زه دا گنډم چي دا د دې هاؤس د ټولو ممبرانو په مفاد کبني نه ده، دا د دې صوبې په مفادو کبني نه ده، زه دا گنډم چي د صوبې د حکومت سره به ډير لوټي احساس وي، دلته به ډير قانونونه داسې وي چي هغه به جوړول پکار وي، مونږ ورسره په دیکبني اتفاق کوؤ چي په کوم کوم ځانې دوي داسې مسئله گنډي چي د هغې د پاره نوې قانون سازي جوړول پکار دي، په هغې کبني تراميم کول پکار دي، نوے قانون راوړل پکار دي، مونږه دې حکومت سره يو خو زه نه پوهيږم چي په دې حکومت باندې دا دومره لويه تلوار چي ده، دا په کومه خبره باندې ده؟ دا خو ستاسو حکومت دے، پينځه کاله ستاسو حکومت دے ان شاء الله که خير وي، مونږ به کم از کم هغه تنقيد برائے تنقيد هرگز نه کوؤ، دا چي مونږ تنقيد کوؤ، تنقيد برائے اصلاح کوؤ، تنقيد برائے مفاد عامه کوؤ، نو دا گزارش کوؤ چي دا نا د دوي ختمه کړي او پکار دا ده چي سيکشن وائز د دوي راځي۔ سپيکر

صاحب! تاسو خبره او کرله چې اپوزیشن په دیکبني امیندمنتس نه دی جمع کړی نو د هغې نه واضحہ کیږی چې زمونږ د قانون د جوړولو سره اختلاف نشته دے ، بیا په هغې کبني ډیر خیزونه داسې دی چې زمونږ ورسره هډو اختلاف نشته نو مونږ ترمیم نه دے جمع کړے خو دا په کومه طریقه باندې چې تاسو وایی چې د سیکشن One نه واخلې ترForty پورې ، دا دې پاس شی ، زمونږ بالکل دې سره اختلاف دے ، مونږ گزارش تاسو ته کوؤ چې سیکشن وائز د دا حکومت راشی ، ان شاءالله په هغې باندې به ډسکشن او کړو ، ډیبیت پرې نه کوؤ ، چې په کوم سیکشن باندې ضرورت نشته په هغې باندې به Go ahead او لیکو خو سیکشن وائز د دوی راشی او دا بلونه به ان شاءالله ، قانون سازی چې ده ، د دې صوبې په بهتر مفادو کبني به په هغې شکل کبني او کړو۔

Mr. Speaker: Please respond, Principle of the Bill,

مسټر سلیټھ! آپ جو ہیں، اس پر بات کر لیں۔

جناب شوکت علی یوسفزئی (وزیر صحت): جناب سپیکر! زما یقین سره انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی لیکن مجھے خوشی ہوتی کہ اگر وہ بتا دیتے کہ اگر کسی کو کسی کلاز پر کوئی وہ ہے تو بتا دیا جائے کیونکہ یہ تو واقعی صوبے کیلئے ہم بنا رہے ہیں لیکن اس کو بہت سوچ سمجھ کر، اس پر بڑے دن لگائے گئے ہیں اور اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اسمبلی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پارٹی ہے اور اس کا اپنا ایک منشور ہے اور اس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کے تحت ہم یہ آئین میں لائے ہیں اس کو، ایوان میں لائے ہیں، ایوان سے میجاریٹی سے اس کو پاس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: شوکت صاحب! آپ تھوڑا اس بل کے بارے میں ہاؤس کو Inform کریں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مینڈیٹ کیا ہے؟ مطلب تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں، Spirit کیا ہے اس میں؟

وزیر صحت: جناب سپیکر! دا تاسو ته پته ده چې په دې صوبه کبني ، مونږ سره جناب سپیکر! په دې صوبه کبني ، یماں تک ایٹوبن رہا ہے کہ اتنا عرصہ ہوا، 67 سال ہوئے، جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے، وہ اس صوبے میں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم، یماں سے چیزیں بھیجتے ہیں ڈرگ ٹیسٹ کرنے کیلئے وہاں پر، اسی طرح اس صوبے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ Suppose ڈرگ کا ایٹو آرہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا ایٹو آرہا ہے جس کی وجہ سے اس صوبے میں مختلف قسم کے

ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک ایسا بل لانے کی کوشش کی گئی کہ ان چیزوں کو روکا جائے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کر کوشش کریں گے اور میں ابھی ابھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے کسی چیز پر، کسی کلاز پر تو بتادیں۔ میں تو تیار ہوں، اگر یہ کسی چیز پر پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔

جناب سپیکر: جناب منور خان صاحب۔

جناب منور خان ایڈووکیٹ: جناب سپیکر صاحب! منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، میرے خیال میں شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو منسٹر صاحب کو میرے خیال اس بل کے بارے میں خود بھی نا لچ نہیں ہے (قسمتے اور تالیاں) یہ سارے ذرا اس کو بتادیں کہ یار! اس کا مقصد کیا ہے؟ ذرا ہاؤس کو ذرا یہ سمجھائیں کہ اس میں صوبے کے یہ جو لارے ہیں، اس میں کیا اس کے فوائد ہیں، صوبے کو کیا فائدہ ہے تاکہ اسمبلی کے ممبران کو بھی تو کم از کم پتہ چلے؟ تھینک یو، سر۔

جناب سپیکر: جناب سردار ادریس صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، سردار ادریس صاحب۔

سردار محمد ادریس: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: مائیک کھول دیں ان کا۔

سردار محمد ادریس: جناب سپیکر! یہ سارے بلز جنوری اور فروری کے اندر پیش ہوئے تھے اور اس کے اندر تمام ممبران کا میں سمجھتا ہوں، میں اپنے بشمول بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں ایک ایک چیز کو دیکھنا چاہیے تھا اور اس وقت اس کے اندر امنڈمنٹ لانا چاہیے تھی اور یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ سپیکر کو کسی ممبر نے پابند کر دیا ہو کہ جی آپ ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد منظور کرائیں گے، یہ آپ کی Discretion ہے اور یہ آپ اس کو پورے بل کو اکٹھا At once اس کی Consideration stage پر میں نہیں سمجھتا کہ کبھی، یہ ہمیں کے ایوان کی روایات نہیں رہیں۔ یہاں جس میں امنڈمنٹ آتی ہے، یہ اس کے نیچے لکھا ہے کہ فوڈ کی سیفٹی کو اور اس کو ریگولر ایئر کرنے کیلئے تاکہ، آپ نے اگر یہ پڑھا ہو، میں سمجھتا ہوں بابک صاحب کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، شاید وہ نہیں پڑھ سکے اس وجہ سے اس میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ رولز بنے ہیں، یہ رولز پہلے بننے چاہیے تھے، آج مطلب یہاں پر اگر فوڈ کو چیک کرنے کیلئے لیبارٹریز نہیں ہیں، اس کو Safety دینے کیلئے ایک قانون سازی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط، اگر Substandard فوڈ ہوتا ہے تو کم از کم اس کی سزا کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے، اس کو آپ Appreciate، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر بعد میں امنڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، ایوان بھی

موجود ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی یہ اپوزیشن کسی بھی اچھی چیز کو، اس دن یہاں پر نلوٹھا صاحب نے ایک بات اٹھائی، ہم نے اس کی سپورٹ کی ہے، ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں چاہتے کہ جو بھی چیز، پازیٹیو چیز جو اپوزیشن کی طرف سے آئے گی، I will be the first person who will stand and who will support it، ایسی بات نہیں ہے، میں یہ کتنا ہوں، میں یہ کتنا ہوں کہ یہ جتنی بھی اس کے اندر جو امنڈ منٹس انہوں نے لائی ہیں، اس پر یہ بیٹھ کر بات کر لیں اور جتنی بھی بات کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں I am on behalf of the treasury benches، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کو پوری بات کرنے کا، اور یہ جو بھی تجویز لائیں گے، اگر پازیٹیو تجویز ہوگی تو ہم اس وجہ سے نہیں کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے آئی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ بات کیا کہہ رہا ہے، We will definitely support it اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو Fully طور پر سپورٹ کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن جناب سپیکر! یہ ہم آپ کی پاور کو چیلنج نہیں کرتے، یہ آپ کی پاور ہے اور آپ Consideration stage پر اور اس کے بعد ایک ایک کر کے بھی پاس کر سکتے ہیں اور اکٹھا بل بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ پابند نہیں ہیں، یہ میری تجویز ہے ان کیلئے۔

محترمہ انسیر زیب طاہر خلیلی: جناب سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: جناب شاہ فرمان صاحب! شاہ فرمان صاحب! تھوڑا اس پر۔ چلیں شاہ فرمان کے بعد آپ۔ شاہ فرمان بات کریں۔

وزیر اطلاعات: شکریہ جناب سپیکر۔ یہ بل کب سے Table ہوا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ منور خان صاحب کو سب سے زیادہ اس بل کے بارے میں پتہ ہے لیکن اس نے کوئی امنڈ منٹ اس کے اندر Propose نہیں کی تو ہم یہ Presume کر جاتے ہیں کہ اس بل کے ساتھ یہ سارے متفق ہیں۔ تو اگر اتنے عرصے سے بل پڑا ہو اور کوئی اس کے اندر امنڈ منٹ Propose نہ کرے تو یہی مطلب لیا جاتا ہے۔ اس کی Statement of objects and reason میں Clearly میں لکھا ہوا ہے، ایک طرف تو ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں، ملاوٹ کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر فوڈ سے Related جو بیماریاں ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے فوڈ اور یجنل نہیں ہے تو بڑا سیدھا سادہ ایک قانون ہے، کلئیر ہے، اس میں کوئی سائنس، راکٹ بنانے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر بڑا سوچا جائے یا اس کے بارے میں کوئی بہت بڑی فلاسفی ہو، کلئیر سی بات ہے۔ اتنے عرصے تک ایک بل Table ہوا ہے، آج اگر اس کے اوپر اس قسم

کی ڈیٹھ ہے تو کوئی جناب سپیکر! Complications نہیں ہیں بل کے اندر، Objectives are very clear اور کافی عرصے سے پڑا ہوا بل ہے، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی لیجسلیشن کو روکنا یا Delay کرنا، یہ کم از کم اس ہاؤس کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور گورنمنٹ کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔

وزیر صحت: جی، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر: نہیں آپ پھر کہیں، میڈم کی بات سنیں، اس کے بعد آپ کو شوکت صاحب۔

محترمہ انیسہ زیب طاہر خیل: جناب سپیکر! یہ بات ہم بار بار Repeat کر رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ بات آئی ہے، حکومتی بنچر سے پھر شاہ فرمان صاحب کھڑے ہو گئے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: میں موقع دے رہا ہوں نا، پوری تسلی کے ساتھ بات کریں۔

محترمہ انیسہ زیب طاہر خیل: میں ابھی تک کہہ رہی ہوں کہ Rule 85 دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ امینڈمنٹ موو نہیں ہوئی، اب ان کو میں بتا رہی ہوں، بالکل یہ منور خان صاحب نے وہ بات صحیح کی ہے، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ نے یہ بل نہیں پڑھا ہے، نہ ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ بس حکومت کا یہ بل پاس کرنا ہے۔ اگر General principles of the Bill پر ہم بات کر سکتے ہیں

Even after the motion of consideration is carried اور آپ کا Rule 85 (2)

(a) کیا کہتا ہے؟ Janab Speaker! if the Member in charge moves that the

Bill be taken into consideration, any Member may move an amendment that the Bill be referred to appropriate standing committee or a select committee or be circulated for the propose of

eliciting opinion there on by a date to be specified in the motion.

کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، بہت زیادہ لیجسلیشن تھی، میں سب سے پہلے کہتی ہوں موو کرنا چاہیے

تھی، اس میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ اوپر نیچے اجلاس اور معاملات، ہمارے اپوزیشن کے اور پھر تو

اجلاس در اجلاس، ٹائم نہیں ملا لیکن آج بھی کچھ گیا گزرا تو نہیں، آپ کا سب سے پہلے فوڈ سیفٹی ایکٹ آنے

کے بعد جو وفاق یاد دوسرے صوبوں کے حوالے سے ان کی خوراک، اجناس کا یہاں پر آنا، ان کی پابندی، یہ

بہت بڑی بنیاد ہے، عام لوگ اس سے Suffer کریں گے، اگر آپ کی یہاں پر پاس نہ ہوئی، آپ اپنی

لیبارٹری سے پاس کرائیں گے، اگر آپ کی اجناس جو یہاں سے باہر جا رہی ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی

لیبارٹری سے پاس کریں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ کیا آپ ایک Land locked صوبہ، اپنے آپ کو باقی صوبوں سے بالکل علیحدہ کریں گے؟ یہ تمام General principles ہیں جناب سپیکر! اور اس کیلئے میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں گزرا، جہاں اتنے دن لگے، بہت اچھی لیجسلیشن آنی چاہیے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے بھائی جناب شوکت یوسفزئی کے دور وزارت صحت میں یہ پاس ہوتا کہ یہ ان کے سر پر اس کا تاج ہو لیکن کیا پتہ لگتا ہے، رات سویر میں کیا ہو جائے؟ تو اس پوائنٹ سے میری یہ خواہش ہے کہ یہ پاس ہو لیکن یہ آپ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کریں اور اس میں جس طرح بائک صاحب نے، سکندر خان نے، سب نے کہا، اس کے تمام Principles پر بغیر امنڈمنٹ کے سیر حاصل بات چیت ہو۔

جناب سپیکر: ٹھیک ہے جی۔ شوکت صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب۔

جناب شوکت علی یوسفزئی (وزیر صحت): جناب سپیکر! تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بل -01-22

2014 کو Introduce ہوا ہے اور یہ اتنا Important اگر انکو لگ رہا ہے، ویسے تو بہت Important ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس پر محنت کر کے تھوڑا بہت اگر کسی کو اس پر Objection ہوتا یا کوئی اس میں اضافہ کرنا ہوتا، تو وہ اگر جمع ہو جاتا تو آج اس پر ہم ڈسکشن بھی کر لیتے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں آیا، انکی طرف سے کوئی مشورہ بھی نہیں آیا، تو اب یہ گلہ ایسا ہے کہ اس صوبے میں آپ کو پتہ ہے، افغانستان کے راستے سے، دوسرے راستے سے جو چیزیں آتی ہیں Unbranded اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں؟ Sugar quoted چیزیں آتی ہیں اس ملک میں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہماری خوراک میں جو ملاوٹ آرہی ہے، Colour دیکھ لیں، ساری چیزیں، ایک ایک چیز کو اس میں ڈالا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ Purity لائیں، شفافیت لائیں خوراک میں، جو جس طریقے سے خوراک مل رہی ہے، اس میں کسی کو Objection ہے، ابھی بھی ہے تو بتادیں۔ اگر اس پہ ہم وقت ضائع کرینگے، اتنا ہم ہے اور ہمارے آٹھ نومینے ہو گئے، اگر ہم اسی طرح دیر کرتے گئے جناب سپیکر، لوگ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو اعتراض ہوتا، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ اس پہ کوئی اعتراض پیش کرتے لیکن اس پہ ہم مزید اپنے بچوں کو بیمار کر سکتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو غیر معیاری خوراک دینے کیلئے تیار ہیں۔ اس صوبے میں اگر حکومت ہماری بنی ہے جناب سپیکر! تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی چیز بازار میں بکے تو اس پہ لیبل لگا ہو، وہ Packed ہو، یہ نہیں کہ جس طرح ابھی گوشت بک رہا ہے یا کوئی کھلی چیزیں بک رہی ہیں عام بازاروں میں، ہم اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔

جناب عارف یوسف (پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات و تعمیرات): پوائنٹ آف آرڈر، جناب سپیکر

صاحب۔

جناب سپیکر: چلو ایک منٹ، یہ منور صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اسکے بعد آپ بات کریں گے۔

جناب منور خان ایڈووکیٹ: تھینک یو، سر۔ جیسے سر، منسٹر۔۔۔۔۔

پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات و تعمیرات: جناب سپیکر صاحب! پوائنٹ آف آرڈر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔

جناب منور خان ایڈووکیٹ: جناب سپیکر! جیسے منسٹر صاحب فرما رہے ہیں، یقیناً یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں،

وہ بھی یہی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس صوبے میں یہ جو بہتری لانا چاہتے ہیں، اس میں ہم بھی وہی

چاہتے ہیں لیکن سر! اگر اس میں ایک دو تین آپ اس کو سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کریں اور وہاں پہ

Thoroughly اس پہ ڈسکشن ہو جائے تو پھر Proper چیز آجائے گی، سب کے ناچ میں آجائے گا

اور اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی۔ تو سر، ہم اس کیلئے، اگر سلیکٹ کمیٹی کو چلا جائے، تین مہینے انہوں نے اتنا

انتظار کیا تو اگر ایک دو ہفتے اور اس پہ لگ جائیں تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔

جناب سپیکر: عارف یوسف صاحب، عارف یوسف صاحب۔

پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات و تعمیرات: شکریہ جناب سپیکر۔ سر، ہماری جو لیجسلییشن ہے، باقاعدہ

اس کے رولز ہیں، اس کا ایک پروسیجر ہے، میرے خیال میں میری بہن کو اس چیز کا مجھ سے زیادہ، اس کی

باقاعدہ تین سٹیجز ہوتی ہیں، جب یہ پاس ہوتا ہے اس کی Last stage ہوتی ہے اور اس میں باقاعدہ، جیسے

اس نے کہا ہے 22/01 کو باقاعدہ اس کو ٹیبل کیا تھا اور اس کا اگر Rule 81 دیکھیں، باقاعدہ سب کو اس

کی کاپیاں مل چکی ہیں اور جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی کو دیا جائے۔ Rule 85، جیسے انہوں نے

کہا، اگر یہ پڑھا جائے تو Last اس کی دو لائنیں ہیں، صرف وہ میں، اس میں آپ اگر Kindly دیکھ

لیں، May be discussed generally but the detail of the Bill shall not be

discussed Shall not لکھا ہوا ہے Shall کا مطلب ہے Compulsory،

Then it necessary to explain ،discussed further اس کے Principles پہ آپ

بات کر سکتے ہیں لیکن آپ اسکی ڈیٹیل کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو سلیکٹ کمیٹی کے

بارے میں بات کی گئی ہے، وہ (a) 2 کا جیسے کہ انہوں نے کہا ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں، اس میں

ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، If the Member in charge moves a Bill be taken into consideration, any Member may move an amendment That the Bill be referred to appropriate Committee، اگر وہ امنڈمنٹ آئی ہے، Last stage، امنڈمنٹ اگر آجائے تو پھر وہ کریگے، اس میں تو نہ امنڈمنٹ آئی ہے، ہے، ابھی تک کچھ اس میں نہیں ہے تو اس لئے میری گزارش ہے کہ اس کو پاس کیا جائے جی۔

جناب سپیکر: ڈاکٹر مہرتاج روغانی صاحبہ اس بل پہ بولنا چاہتی ہیں، میں اس کو۔

محترمہ مہرتاج روغانی (معاون خصوصی برائے سماجی بہبود): تھینک یو، مسٹر سپیکر۔ ڈیر بنہ
 دے سکشن دے And usually پکار دے چھی اوشی Healthy discussion، صرف Regarding د دہی چھی دا فوڈ دغہ زہ صرف دوہ خیزونہ پکبنی Add کول غوارم۔ No. 1 is that adulterations, please for the information of the House, I just want to clarify دغہ نہ خرخیبری، What do you call it?، دا زیر او شنہ خیزونہ، دغہ رنگ چھی دے، دغہ رنگ Carcinogenic دے، دومرہ ماشومانو تہ کینسر زیات شوے دے، ہاؤس تہ پتہ دہ کہ نہ دہ، No. 1 I tell you, No. 2، دا شوکت صاحب چھی خنگہ اووٹیل دا پیکنگ، دا میلک فوڈ چھی راعی، دا پیکنگ باندہی بالکل دورغ لیکھی چھی "یہ ماں کے دودھ کے برابر ہے" No, nothing in the world انسان سپورمئی تہ اور سیدو (تالیاں) وایم سپورمئی تہ انسان اور سیدو خود مور د پتو پہ شان پیئی ئے نہ دی جوہ کھی نو دا دوی اولیکی "یہ ڈبہ ماں کے دودھ کے برابر ہے"، دا شوکت صاحب چھی کوم تاسو تہ Explanation در کرو چھی دا پیکنگ باندہی غلط لیکلی کیری And please for God sake پہ دہی بل خو خہ مہ وایئ، Because being doctor, I tell you، کینسر د'ماؤتھ' کینسر شروع شو، پہ دہی پبنتنو کبنی، تاسو شوکت خانم تہ لار شی، شوکت خانم کبنی د تولو نہ زیات کینسر پبنتنو کبنی دے And that is because of food adulteration، پہ تورہ چائی کبنی درتہ خہ ملاوہی، وینہ ملاوہی، بلہ، You know، دا کوکا کولا چھی کوم جوہیری، دا نمبر تو، نو Please for God sake پہ دہی Bill

باندی زہ درتہ ریکویسٹ کوم، خواست کوم چہ دا خو بالکل پاس کړی، دا خو Really مونږ سرہ ظلم دے۔ تھینک یو۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: اب توہاؤس نے، اب توہاؤس نے موشن Carry کی ہے اور سارے کلاز بل کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب میں پاس کرنے کیلئے وزیر کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے بل کو پاس کرا دیں۔ آگے آنے والے بل پر آپ بحث کر دیں اور اسکے بعد جو بل ہے، میں آگے آنے والا بل جو ہے، آپ اس پر Proper بحث کر لیں گے۔

جناب سردار حسین: سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: جی جی، بات کر لیں، اس کے بعد پھر منسٹر صاحب بات کر لیں گے۔ وزیر صحت: جناب سپیکر! میں خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی بل 2014 کو اس ایوان میں پیش کرنے کیلئے تحریک پیش کرتا ہوں۔

جناب سردار حسین: سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: ایک منٹ، ایک منٹ بات کر لیں، مختصر کیونکہ ابھی اس کو۔

مسودہ قانون کا پاس کیا جانا

(خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی مجریہ 2014)

جناب شوکت یوسفزی (وزیر صحت): جناب سپیکر! خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی بل 2014 کو پاس کرنے کیلئے تحریک پیش کرتا ہوں۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that The Khyber Pakhtunkhwa, Food Safety Authority Bill, 2014, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Aye' those who are against it may say 'No'

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The Bill is passed.

(Applause)

دی نہ پس بہ اوس زہ، بنہ خبرہ او کړی، بسم اللہ۔

جناب سردار حسین: سپیکر صاحب! یو خودا چہی د گورنمنٹ د طرف نہ زمونږ کوم معزز ملگرمے پاخی، هغه دا تاثر ورکوی، هغه دا تاثر ورکوی چه گنی خدائے مه

ڪرہ مونبر د دې Bill خلاف يو، حالانڪہ ما دا خبرہ ڊيره پہ واضحہ توگہ باندي اوڪرہ چي مونبر د Bill نہ يو خلاف، او بيا دلته زمونبر يو ورور د Rule 81 حوالہ ورڪرہ، زہ هغه تہ دا گزارش كوم، دا Rule 102 چي دے، د هغي Sub rule (2)۔۔۔۔۔

جناب سپيڪر: جی۔

جناب سردار حسين: شڪريہ سپيڪر صاحب۔ دې ملڪري د Rule 81 حوالہ ورڪرہ، زہ دوي تہ دا گزارش كوم چي دا Rule 102 او دا Sub rule (2) چي دے چي دا اوگورو سپيڪر صاحب! دلته ڪنبي وائي چي: “The Speaker may, if he thinks fit, put as one question group of clauses to which no amendments have been offered” چي۔ “Provided that if a Member requests that any clause be put separately, the Speaker shall put that clause separately.” ما خو پہ پښتو ڪنبي دا خبرہ اوڪرہ چي مونبر ستاسو د Bill خلاف نہ يو، تاسو بيا بيا دا خبرہ ڪوي، حڪومت خبرہ ڪوي چي دوي امنڊمنٽ نہ دے جمع ڪرے، مونبر نہ دے جمع ڪرے ڪڪہ چي زمونبر ورسره اختلاف نشته خو مونبر وايو چي دا ڪلاز وائز تاسو راشي، دا يوه خبرہ دہ۔ بيا پڪنبي بلہ خبرہ دا اوشوہ چي دا خو ڊير مخڪنبي اسمبلي تہ Put شوے وو، بالڪل دا اسمبلي تہ Put شوے وو، مونبر اپوزيشن چي دے Requisition هم ڪرے وو، اجلاس روان وو او اجلاس يڪدم چي دے ختم شو، زمونبر ايڄنڊا هم نيمڪري پاتي شوہ نو دلته خو زمونبر د حڪومت پہ نيت باندي هم شڪ دے او شڪ نہ چي دا حقيقت دے چي ستاسو نيت چي دے، چي دوي سرہ دا دومرہ لويه اهمہ قانون سازي وه نوبيا زہ دا تپوس ڪولے شم چي دا د دوه دري ورخو دا ناغہ پڪنبي ولي راغله؟ د دې خو بيا هڊو خه جواز نہ جوڀريدو۔ يو اجلاس راغوبنتے شوے وو، پڪار دا دہ چي هغه اجلاس روان وے خو دا پہ دې غرض باندي شوي دي چي ڪم ازڪم اپوزيشن اجلاس راغوبنتي او اپوزيشن والا به خپلو ڪورونو تہ لار شي او بيا حڪومت دا فيصلہ وڪرہ چي راشہ بلڊوزر ورسره دے، دې اسمبلي تہ به بلڊوزر راولو او د اتول قانونونہ به پيش ڪرو او بلڊوزر پري راينخ ڪرو او بلڊوز به ٿے ڪرو۔ سپيڪر صاحب! داسي نہ دہ

(تالیاں) سپیکر صاحب! زمونر ستاسو نہ ڊیره لویه طمع ده، زمونر ستاسو نہ ڊیر لوئی، په هغی خو مونر پوهیرو، دوی د قوم ته بیا دا خبره نه کوی او دا د قوم نمائندگان دی، دوی په هر خه باندی پوهیری، زمونر په هر خه باندی نظر دے۔ سپیکر صاحب! پکار دا وه زمونر دا گزارش دے سپیکر صاحب! که د Bill په اهمیت باندی تاسو خبره کوی، مونرہ درسره Agree یو خو مونر دا خبره کوؤ چي دا د اسمبلی په ریکارڈ باندی راخی چي کله دا د اسمبلی په ریکارڈ باندی راخی نوزما دا ریکویسٹ دے Being a Member او زمونر د ټولو ممبرانو دے چي دوی د سیکشن وائز راشی نو ان شاء اللہ مونرہ ورسره یو۔

خیبر پختونخوا ٹیننسی (ترمیمی) بل مجریہ 2014 کا زیر غور لایا جانا

Mr. Speaker: Honorable Minister for Revenue, Khyber Pakhtunkhwa, to please move his motion for consideration of the Bill.

جناب علی امین خان (وزیر مال و املاک): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شکر یہ جناب سپیکر۔ میں خیبر پختونخوا ٹیننسی (امنڈمنٹ) بل، 2014 کو کو فوری طور پر زیر غور لانے کیلئے تحریک پیش کرتا ہوں شکر یہ۔

جناب سپیکر: جناب سکندر خان۔

جناب سکندر حیات خان: زہ ستاسو مشکور یم جناب سپیکر! چي تاسو مالہ موقع راکرہ۔ جناب سپیکر، کہ زمونر ملگرو اعتراض ہم اوچتولو، بنیادی طور باندی مونر دا غوارو چي دې خانی نہ چي کوم قانون ہم جویری چي په هغی پوره مفصل بحث ہم اوشی او د هغی په هر پہلو باندی او هر اړخ باندی تفصیلی بحث اوشی نو بیا به یو بنه قانون سازی کیبری او مونر دا غوارو چي داسې قانون سازی د اوشی ځکه چي که خراب قانون جوړ شی نو په هغی باندی به اپوزیشن ہم بدنام وی او حکومت به ہم بدنام وی، نو مونر دا غوارو چي بنه قانون سازی اوشی۔ جناب سپیکر، دا کوم د Tendency Act کبني دوی امنڈمنٹس راولی لگیا دی، یو خو جناب سپیکر! کہ مونر او گورو، کہ مونر تاریخ او گورو، زمونرہ صوبی کبني او په دې زمونر ریجن کبني د لینڈ لارڈ او Tenant یو ڊیر لوئی مسئلې پاتې شوې دی، د دې ڊیر لوئی تحریکونه ہم دلته کبني چلیدلی دی، ڊیر

لوئی Uprisings هم شوی دی، د غلډیر تحریک نه واخلې تر د کسان کمیټی جوړیدل، یا د مزدور کسان پارټی جوړیدل، دا ډیر لوئی یو دلته کښې دغه شومے دے او د دې Effects چې دی، هغه زموږ په ریجن باندې هم وو او د هغې ټول انټرنیشنل د هغې Impacts هم وو، نو جناب سپیکر! په دغې حوالې سره خصوصاً زه دا گنرم چې دا ډیر Sensitive issue ده چې په دې باندې پکار دی چې پوره Deliberation اوشی۔ جناب سپیکر! دا دوی چې کوم خیز دغه کوی، دیکښې دوی دا Plea اخستې ده چې د فیډرل شریعت کورټ او د سپریم کورټ په دیکښې ډاټریکشنز دی خو که او گورې نو هغه Verdict چې کوم راغلی دے د فیډرل شریعت کورټ، هغې کښې صرف د یو سیکشن باره کښې خبره ده، د سیکشن 2 سب سیکشن (7) چې دے، د هغې باره کښې ډاټریکشن شته خو دوی په دیکښې ایډیشن هم کوی لگیا دی د سیکشن 3(a)، نو دا جناب سپیکر! د هغې باره کښې ډاټریکشن نه د فیډرل شریعت کورټ شته، نه د سپریم کورټ شته چې دوی کوم د دې Reason دغه کښې Quote کړے دے جناب سپیکر، دا کوم 3(a) چې دے، زه دا وایم چې دې سره به دومره لوئی د لاء اینډ آرډر سیچویشن جوړیږی په صوبې کښې چې هغه به بیا تاسو کله هم کنټرول نه کړے شی۔ جناب سپیکر! اوس هم که مونږ او گورو، څه چې زموږ په مالاکنډ ډویژن باندې تیر شو، که هغې کښې مونږ د هغې مفصل جائزه واخلو او په هغې کښې هر یو پوانټ واخلو نو هغې کښې گورې یو ایشو چې ده، هغه د 'لینډ لارډ ټیننټ' ایشو هم وه او د هغې د وچې نه دا دومره لوئی مسائل جوړ شوی دی۔ جناب سپیکر، زما به دا خواست وی چې دا کم از کم فی الحال په دې باندې دغه نه کوی، دا د بیا کمیټی ته حواله شی یا په دې باندې Threadbare discussion اوشی ځکه چې د دې Repercussion، زه دا وایم چې د دې به ډیر Repercussions را اوځی جناب سپیکر، په پنجاب کښې، په سندھ کښې، نور ځایونو کښې هغوی لا هغه شان په دې باندې عمل نه دے کړے، دا ډاټریکشنز د 89ء نه دی، اوسه پورې په دې باندې ځکه عمل نه کیدو چې دیکښې حکومتونو ته پته وه چې دیکښې بعضې داسې ایشوز دی چې د هغې د وچې نه به، ډیر Sensitive issues دی او د هغې Repercussions شته، نو زه اوس هم تاسو ته دا تنبیہ درکوم، زه تاسو ته دا

خواست کوم چہی دا کمیٹی تہ اولیبری او دہی باندہی Threadbare discussion
 اوشی، کہ دا داسہ پاس کرے شو جناب سپیکر، دہغہ Repercussion بیا ذمہ
 دار چہی دے، ہغہ بہ حکومت وی۔

جناب سپیکر: زہ مفتی صاحب تہ دغہ کوم چہی دہی باندہی خپل، تاسو دا Bill، بنہ
 جی سراج صاحب! دا، جی علی امین۔

جناب علی امین (وزیر مال و املاک): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر! یہ جو امینڈمنٹ اس بل
 کے اندر آرہی ہے، اس کے اندر لینڈ ریفارمز ایکٹ جو لگا تھا، اس کے بعد یہاں پر قزلباش اور کچھ لوگوں نے
 اپیل کی تھی اس کے اوپر، اور اس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ریفر کیا تھا شریعہ اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ
 آف پاکستان کو، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ Decision دیا ہے، جس میں 60 A جو پنجاب کے اندر
 انہوں نے ختم کر دیا تھا تو حاجی سرفراز خان نے اس کے اوپر دوبارہ ایک پیٹیشن دائر کی تھی فیڈرل
 شریعت کورٹ کو 15 مئی 2002 کو، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ چیز
 ختم ہو چکی ہے اور Unislamic ڈیکلیئر ہو چکی ہے تو خیبر پختونخوا میں بھی اس کو Implement کیا
 جائے۔ اس کے بعد پراونشل گورنمنٹ نے اس کو Oppose کیا اور Application بھی لکھی اس کے
 بارے میں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپس میں بیٹھ کر جب لاء ڈیپارٹمنٹ کا مکمل ایک لائحہ عمل اس کے
 اندر انہوں نے بنا کے بھیجا تو اس میں جو چیز Unislamic تھی، اس کو انہوں نے ٹھیک کیا اور اس کے بعد
 میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جو انہوں نے ایک A-60 کے مطابق ختم کیا تھا، اس
 کو جو کہ 1973 کے پاکستان کے آئین میں بھی آچکا ہے کہ جب Parents فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے
 بچوں کو وراثت نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ وراثت جو ہے، اس کو نہیں جائیگی اور لینڈ
 لارڈ جو ہے، اس کے بعد وہ اگر اس کو آگے سے Willing ہے کسی اور کو دینے کیلئے، تو وہ خود مختار ہو گا اور
 میرے خیال میں ایک اچھی بات ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ایک اسلامی ملک ہے اور ہمیں
 شریعت کو Follow کرنا چاہیے اور پابند ہیں اس کو کرنے کے، اور یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر اس چیز کو
 انہوں نے مانا تھا کہ ہم اس کو کریں گے لیکن یہ چونکہ نہیں کر سکے، جو بھی اس ایوان میں لوگ تھے تو ہم اب
 اپنی گورنمنٹ میں نہیں چاہتے، ہم اوپر سے اس چیز کے پابند ہیں اور ہم نے کر لیا ہے اس کو، کہ ہم یہ نہ
 کریں کہ اس کو ہم Delaying tactics میں لے کر جائیں اور مزید غیر اسلامی جو ایک چیز پاس بھی پڑی
 ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو اس کو ہم Implement نہ کریں۔ شکریہ۔

جناب سپیکر: جناب خالد خان صاحب، خالد خان صاحب۔

جناب خالد خان: شکریہ جناب سپیکر صاحب۔ آنریبل منسٹر خوادیرې بنه خبرې اوکړلې او هغوی دا وائی چې دا Bill چې کوم دے، دامونر د فیدرل شریعت کورٹ په رنرا کبني په دیکبني اماندمنت راولو او دوی دغه شق د دې Bill نه د Land tenancy نه دغه شق دوی Delete کوی چې کوم شق دا دے، که تاسو اوکتو Tenant and Land lord include the predecessor and successor in the interest of a tenant and land lord respectively، لکه جناب سپیکر صاحب! د Delete کولو نه دا فائده شوه چې کوم دلته په دې صوبه کبني بالکل هغه جاگیردارانه نظام جوړ شی چه کوم لیند لار د دے، هغه ته خوبه هغه شے ملاؤ شی خو چې کوم Tenant دے چې کوم هغه د دیرش خلویبنت کالو نه یو خائي باندې قابض دے، هغه لگیا دے، هغه پکبني محنت مزدوری کړې ده، خواری ئے کړې ده، هغه د هغې نه د خپلو بچو کفالت کوی، پرورش کوی، په هغوی تعلیمونه کوی او هغه د دې نه محرومه شی، یو طرف ته خومونر دا وایو، (شور) جناب سپیکر صاحب! چې کوم سرے په دې باندې دغه وی۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: اس کے بعد میں شاہ فرمان کو موقع دوں گا، وہ Explain کریں گے اور یہ بات ختم کریں اپنی۔

جناب خالد خان: جناب سپیکر صاحب! یو طرف ته خو کہ مونر دا اوگورو نو مونر په دې صوبه کبني لیند لار د پروموت کوؤ، دیو جاگیردارانه نظام راوستلو کوشش کوؤ، بل طرف ته چې مونر د فیدرل شریعت کورٹ یو خبره کوؤ نو کم از کم په دې باندې یو سلیکٹ کمیٹی له دا Bill لیرل په دې پکار دی چې بل طرف ته د هغې خلقو چې کوم د دنیا په سوؤنو، په لکھونو کورونه خاندانونه دی چې کم از کم دې سره د هغوی معیشت ترلے شوے دے، دوی د خپلو بچو د هغې نه کفالت کوی، د دوی نه د هغوی تعلیم جاری ساتی او دا Bill چې مونر پاس کړو او Land and Tenancy Act کبني ئې راولو نو جناب سپیکر صاحب، دلته کم از کم خصوصاً چې کوم ملاکند ریجن دے، کوم چې مونر سره چارسده ضلع ده، که مردان دے، که په صوابی کبني دے، داسې Tenants دلته موجود دی چې

کم از کم دا به هغوی ته ډیر زیات یو دکھ اور سپیری، هغوی ته به ډیرې غټې مسئلې Create شی او کم از کم دا شے چي کله پروموت شی نو دلته په ډې صوبه کښې، په ډې ضلع کښې کم از کم د لاء اینډ آرډر مسئلې به ډیرې زیاتې Create شی۔ نوزه ستاسو په وساطت سره دا ریکویسټ کوم چې دا Bill د کم از کم سلیکټ کمیټی ته لار شی چې کم از کم د Consensus نه پس په دیکښې که امانډمنټ کیږی که هر څه کیږی چې مهربانی د اوکړی چې دا Bill د سلیکټ کمیټی ته لار شی۔

محترمہ نکت اور کزنی: جناب سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: میڈم! میرے خیال میں شاہ فرمان اس پر تھوڑی وضاحتی بات کر لیں، اس کے بعد۔ اس پر میں پوری ڈسکشن چاہتا ہوں۔ جی جی۔

محترمہ نکت اور کزنی: جناب سپیکر صاحب! کوئی اور منسٹر صاحب اگر اٹھ کر یہ بات کر لیتے، ایک تو ہمیں، سوری آپ کی چیئر سے میں مخاطب ہوں کہ ہمیں آریبل منسٹر صاحب کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا تو انہیں کہیں کہ گلہ صاف کر کے آیا کریں کیونکہ (شور) By God مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے۔ سر، اگر کوئی اور منسٹر صاحب ہمیں بتا دیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہاں پر میرا خیال ہے اگر میجرائٹی لوگوں سے پوچھ لیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی تو گیلری والے لوگوں کو کیا سمجھ آئی ہوگی؟ تو وہی بات اگر دہرائیں کیونکہ ہم کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں، جناب سپیکر۔

جناب سپیکر: جناب شاہ فرمان صاحب۔

جناب شاہ فرمان (وزیر اطلاعات): شکریہ، جناب سپیکر۔ اگر معزز رکن کے کان ٹھیک ہیں تو میری آواز اب ان تک پہنچ جائیگی اور اس کے بعد وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس آئین، 1973 کے آئین کے اندر Objective Resolution، قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے، اس کا پہلا پیرا گراف یہ بتاتا ہے کہ Sovereignty belong to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised within the limit prescribed، لہذا یہ اسلامی ملک ہے۔ اس Objective Resolution کے اندر صاف لکھا گیا ہے کہ جو قوانین Islamic injunctions کے خلاف ہونگے ان کو تبدیل کیا جائیگا۔ معزز ارکان نے اس کے Repercussion کے اوپر بات کی، بالکل ٹھیک ہے ان کی Logic، ان کی سوچ کہ اس کے کیا اثرات

ہونگے؟ لیکن جو آئین کتا ہے اور اس کیلئے اسلامی نظریاتی کونسل کی Suggestions اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈائریکشنز، وہ Binding ہے، یہی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ یہ بتادیں کہ کونسا قانون Islamic injunctions کے ساتھ Conflict میں ہے اور کونسا نہیں ہے؟ لہذا اگر فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈائریکشنز ہیں جناب سپیکر، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی Choice ہی نہیں ہے کہ ہم اس قانون کو پاس کرائیں۔ شکریہ، جناب سپیکر۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: سکندر خان۔

جناب سکندر حیات خان: جناب سپیکر، شاہ فرمان خان خبرہ او کپلہ خوبنیادی طور باندی جناب سپیکر! کہ زما خبری دوئی غور سرہ اوریدلپی وی نو ما دیکنبی د دوؤ ایشوز خبرہ او کپلہ چہ کوم د فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ دہ، دا Just is د یو Definition بارہ کنبی چہ بھئی! This is not according to the Islamic teachings، دا د لری کرے شی خو چہ دوئی کوم Bill راوستے دے، ہغی کنبی ہغہ کوم چینج راولی او بیا سیکشن 3 سرہ سیکشن 3A کوی چہ د سیکشن 3A بارہ کنبی د فیڈرل شریعت کورٹ پہ Decision کنبی نہ ذکر شتہ، نہ خبرہ شتہ، جناب سپیکر! یو خو پکار دا وہ، کہ ایجنڈا تاسو راواخلی او د دہ اوگورئی نو ہر یو Bill سرہ چہ کوم Bill سرہ دوئی امنہ منتس راولی، د ہغی Extract لگی، کہ Extract تہ اوگورپی نو Extract خالی د یو صفحہ لگیدلے دے، خالی د ہغہ یو۔ کوم چہ د فیڈرل شریعت کورٹ د طرف نہ ڈائریکشن دے، د ہغی والا Extract لگیدلے دے خود سیکشن 3 والا Extract نہ دے لگیدلے، یو خو پکار دا وہ چہ دا ہم ورکرے شوے وے نو دا شے بہ نور ہم واضح شوے وو۔ دویم جناب سپیکر، بیا پکار وو چہ دہ سرہ د ہغی فیصلہ کاپی ہم دوئی لگولپی وے، نو بیا بہ دا شے تاسو تہ ڈیر واضحہ او مخامخ بہ راغلے وو، زہ خکہ وایم چہ دا کمیٹی تہ اولیرئی، دہ باندی Threadbare discussion د اوشی چہ بیا د کورٹ چہ کومہ فیصلہ وی، د ہغی مطابق تھیک دہ خو خبرہ دادہ چہ دہ باندی د سیکشن ضروری پکار دے خکہ چہ دا داسی دغہ کول چہ دے، د دہ بہ بیا ڈیر داسی Repercussions رااوخی چہ ہغہ بہ

بیا کنٹرول کول ڈیر گران وی جناب سپیکر۔ زہ اوس ہم دا دغہ کوم چہ دیکھنہی جلدی د نہ کوی، دا فیصلہ پہ 89ء کبھی شوہی دہ، اوسہ پورہی پہ دغہ اونشو کہ یوہ ہفتہ نورہ واخلی او پہ دہی باندہی د سکشن اوشی نوخہ فرق پریوخی جناب سپیکر؟

جناب سپیکر: شاہ فرمان خان! میں حکومت کا اس کے اوپر مؤقف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے کوئی Comments کر دیں تاکہ میں، اور کوئی معزز رکن اس پر بات کرنا چاہتا ہے؟ میڈم۔
محترمہ امیرہ زیب طاہر خیل: شکریہ جناب سپیکر۔ میں بنیادی طور پر یہ جو شاہ فرمان صاحب نے ذکر کیا، اس کا Background بتایا کہ یہ حاجی سرفراز خان صاحب نے Article-203 کے تحت ایک بیٹیشن دائر کی تھی جس میں بنیادی طور پر جو شریعت کے حوالے سے 1950 Tenancy Act جو ہے، NWFP, Tenancy Act 1950 جو ہے، اس کی شق 7 کو Delete کرنے کیلئے دی تھی۔ جناب سپیکر، شریعت کورٹ میں یہ کیس چلا اور آخر میں ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں یہاں پر ہمارے خیر پختہ نخواستہ، انہوں نے یہ ایٹورنس دی اور یہ شریعت کورٹ سے اس وقت Withdraw ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے، بیٹیشن ہے، حکومت اس پر لیجسلیشن کرے گی، امانڈمنٹ لائے گی اور یہ امانڈمنٹ اس کے تحت آئی ہے۔ ایک تو جس طرح سکندر شیرپاؤ صاحب نے کہا، اس کے ساتھ ڈیٹیل نہیں دی گئی، اگر سیکشن 3 کے تحت ہوئی ہے تو سیکشن 3 بھی ساتھ دینا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کیلئے جس طرح پچھلے قوانین ہیں، کئی مبینوں پہلے Introduce ہوئے، یہ ابھی آیا ہے اور اس کے جو محرکات ہیں، وہ بہت سنگین ہیں۔ ایک تو یہ بہت Important issue ہے جو کہ صوبے کیلئے انتہائی Sensitive، بڑا احساس نوعیت کا ایشو ہے، اس سے Spark ہو گا اور اگر یہ Delete کرنا بھی تھا، آپ نے شریعت عدالت جو ہے، شریعت کورٹ کے تحت تو 3A کو اس میں Add کرنے سے، Insertion سے خاص طور پر اس کا یہ لفظ بڑا سنگین ہے جس پر کافی اشتعال ہو سکتا ہے جناب سپیکر! جس میں انہوں نے 3A کے اندر نمبر 1 کے بعد 2 Clause کو Add کیا ہے اور اس میں کہا ہے، The existing tenants enjoy tenancy rights before the commencement of Khyber Pakhtunkhwa, Tenancy (Amendment) Act, 2014, shall continue their rights of tenancy till their eviction through process of law یعنی اس میں آپ Eviction کی بات بھی کر رہے ہیں ان لوگوں کی، Tenants کی اور Process of

law کے تحت، جبکہ آپ کا جو Predecessor اور Successor کے حوالے سے شریعت کا جو پوائنٹ ہے، جس کی Definition میں جو 7 Clause ہے، اس کو Delete کرنے کیلئے شریعت کورٹ نے آرڈر کیا ہے، تو اس کے جو معاملات ہیں، ہو سکتا ہے ضرور حکومت کے پاس یا جو بورڈ آف ریونیو ہے، انکے پاس اس کیلئے کوئی Legal reason ہو گا کہ انہوں نے اس Clause کو کیوں ڈالا؟ لیکن اس تمام معاملے کو سمجھنے کیلئے اس کو سٹینڈنگ کمیٹی کو، سلیکٹ کمیٹی کو ریفر کرنا ہو گا تاکہ اس پر سیر حاصل بات ہو، اس کے بعد یہ لاء کسی بھی ٹائم پاس ہو سکتا ہے۔

جناب سپیکر: سردار ادریس صاحب۔

سردار محمد ادریس: شکریہ جی۔ جناب سپیکر! یہ بڑی اہم قانون سازی ہے اور جس طرح سے شاہ فرمان اور ہمارے دوسرے معزز ممبران نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، Provided that any improvement made by an existing tenant on the tenancy in accordance with the provision of this Act shall be entitled to compensated by the land lord. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معزز اراکین کی طرف سے جو کوششیں اٹھائے گئے ہیں، That needs deliberations، اس کے اوپر اور سوچنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی Hustle، کوئی اتنی جلدی نہیں ہے اور اس کو اگر مزید سلیکٹ کمیٹی کو دے دیا جائے، اگر ہمارے معزز ممبر Agree ہوں (تالیاں) تو اس میں جناب سپیکر! کوئی مضائقہ نہیں ہو گا۔ اگر اس کے Repercussion، کل اگر اس کے کچھ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس بات سے Agree کرتا ہوں کہ اگر یہ چلا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہو گا تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کو دیکھ لیں تاکہ سب کیلئے Acceptability ہو، تاکہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جس سے کل ہمیں کوئی مزید اس میں امینڈمنٹ لانی پڑے۔

جناب سپیکر: جناب سراج الحق صاحب۔

جناب سراج الحق (سینیئر وزیر (خزانہ)): جناب سپیکر! اولہ خبرہ خو او کرم چپی سردار حسین بابک صاحب او سکندر خان شیرپاؤ کھڑی دہ چپی قانون سازی چونکہ دا دیو ورخ او د میاشت یا د حکومت د پارہ نہ جو ریبری، دا د ہمیشہ د پارہ او د تہول قوم د پارہ جو ریبری نو پہ دیکھنی تادی کولو، عجلت اختیارولو یا د اکثریت پہ زور بانڈی یو قانون پاس کولو پہ حق کھنی مونہ نہ یو۔ دا دیو

بنیادی ڊاڪومنٽ دے او دا نه صرف خیبرپختونخوا بلکه د ٽول پاکستان په دې باندې نظری او خصوصی طور دا وکیلان ئے هم گوری، ججان ئے هم گوری، انتیلی جنس، دانشور او دانا بینا ٽول خلق بیا د دې جائزه اخلی او که چرته بنه قانون سازی وی نو په هغې باندې دې ټولې اسمبلی ته شا باشے هم ملاویری او که په هغې کبني چرته سقم کمزوری پاتې کیږی نو هغه هم د دې ټول هاوس ذمه داری ګرځی نو په دې وجه باندې د دې مؤقف مونږ ټول ملګرتیا کوؤ، سپورټ کوؤ، Appreciate کوؤ او یقیناً دا ده چې مونږ په دیکبني هیڅ د تعدی څوګر نه یو۔ (تالیان) جناب سپیکر صاحب، دویمه خبره دا ده چې مونږ چې کوم قانون جوړوؤ، مونږ انسانان یو او زمونږ جوړ کړے شوع قانون حرف اخر نه دے او مستقل قانون صرف هغه دے چې کوم د الله او د الله د رسول ﷺ قانون دے، باقی مونږ انسانان یو او زمونږ نه هر وخت په دیکبني د غلطی امکان شته خو مونږ په دې باندې یکسو یو که چرته مونږ یو Bill پاس هم کړو او سبا له په هغې کبني د اپوزیشن یو ورکر، یو ممبر یا د حکومتی پارټی یو ممبر یو امنډمنټ راوړی نو مونږ ټول اخلاقی طور په دې باندې Bound یو چې مونږ هغه قبول کړو، لهدا دا نن هم چې مونږ کوم پاس کړو یا پرون مو پاس کړی دی نو زه As a Member د دې خبرې اراده کوم، عزم کوم چې چرته هم د اپوزیشن یو عام ممبر هم ما په هغې خبره یکسو کړی نو اول به زه وایم چې په هغې کبني د امنډمنټ راوړلو د هغې تائید او ملګرتیا به کوم، بغیر د دې نه چې دا امنډمنټ چا راوړے دے۔ دریمه خبره دا ده چې زمونږ په آئین حاکمیت اعلیٰ د الله تعالیٰ تسلیم شوع دے او په هغې کبني دا خبره ده چې تقوینی او د تشریح اختیار د الله تسلیم کړے شوع دے نو تاسو په قامی اسمبلی کبني چې کوم قانون جوړیږی او که په صوبائی اسمبلی کبني، د پاس کیدو نه پس هم که چرته دا خبره په ډاګه شی چې دا د قرآن د اساسی احکاماتو خلاف دے نو دا ناقابل عمل به وی ځکه چې قرارداد مقاصد کبني دغه دفعه زمونږ د آئین بنیاد دے، نور ټول کلار کبني تبدیلی راتلې شی خو دغه کبني نشی راتلې، د دې موضوع د قانون په حوالې سره هم، زما فی الوقت دا عرض دے چې جناب سکندر خان شیرپاؤ صاحب زمونږه خوږ وروړو اگر چې تجویز پیش کړو چې دا د کمیټی ته پیش شی او په هغې

کبني د جائزه واخلی نو زما خپل Suggestion دا دے چې دا خو Table شوی دے ، ټولو ورونرو ملگرو کتلے دے خو زما خپله احساس دا دے چې اکثریت زمونږ په دې اسمبلۍ کبني په اول ځل باندې دا ډاکومنټ کوری او اپوزیشن هم کیدے شی زیاته مطالعه د هغه څیزونو کوی چې هغوی پخپله راوړی او سرکار کبني هم چې کوم Responsible خلق دے نو هغه د دې خبرې زیات خیال ساتی چې مونږ یو شے پیش کوؤ خو عام ممبرانو ته د دې خبرې د مطالعې، مونږ اعتراف کوؤ اگرچې دا اعتراف کول ډیر گران کار دے خصوصاً د پریس په مخکبني، د میدیا په مخکبني، د خلقو په مخکبني خو حقیقت دا دے چې ممبران د اسمبلۍ په دې گوناگون مصروفیاتو کبني کلاز وائز او دا هر لفظ کتل، دا ممکن نه دی خو ترڅو چې د دې قانون په باره کبني زما خیال دے، زما خپل تجویز دا دے چې فی الحال خودا مونږ پاس کوؤ به ځکه چې د اپوزیشن د طرف نه په دیکبني څه داسې خبره نه ده راغلې چې دا یو شے پکبني د آئین خلاف دے یا د انسانی بنیادی حقوقو خلاف دے یا د شریعت خلاف دے، البته نن مونږ بیا د دوئ سره Commitment کوؤ، وعده کوؤ که چرته د دې د پاس کولو نه پس هم په دیکبني داسې یو خبره راغله چې هغه د عوامو د حقوقو خلاف وه یا د شریعت او د اسلام د دستور خلاف وه نو مونږ او دوئ به په شریکه ځکه چې قانون دا نه صرف د سیاسی پارټو د پاره دے، دا د عامو خلقو د پاره دے، فی الحال زه په دې خبره باندې خوشحال یم چې بابک صاحب او سکندر خان شیرپاؤ دواړو دا اووئیل چې د دې قوانینو سره زمونږ اتفاق دے خو ستاسو د دې تادی سره زمونږه اتفاق نه دے، بهر حال مونږ به تادی نه کوؤ او تاسو د دې مخالفت مه کوئ او فی الحال خودا تاسو هاؤس ته مخکبني کړئ چې هاؤس پرې خپله رانې ورکړی۔

جناب سپیکر: سکندر خان۔

جناب سکندر حیات خان: جناب سپیکر صاحب! زه ستاسو مشکور یم۔ دلته کافی بحث اوشو او کافی خبرې اوشوې۔ هغه ممبران چې د هغوی دا ورومبني ځل دے په دې هاؤس کبني نو هغوی به کیدے شی د سراج صاحب خبرو سره ډیر مطمئن شوی وی خو مونږ دا خوږې گولۍ ډیرې اوریدلې دی، دا پینځه کاله په

ایم ایم اے دور کینہی مونر ڈیر اوریدلی وو (تالیاں) او دہی بارہ کینہی بیا
 اخرہ کینہی، د ہغہ اسمبلی پہ اخر کینہی دا یوشے مشہور وو چہی یرہ بیا خورہی
 گولٹی را کپہی کپری بہ، نن بہ بیا د خورہو گولو تقریر کپری نو دا خورہی گولٹی چہی
 دی، دا د سراج صاحب ہغہ خپلو ممبرانو لہ اوساتی کم از کم اپوزیشن لہ د نہ
 را کوی۔ جناب سپیکر، زہ خان دا گنرم جناب سپیکر! چہی زہ پہ دہی ہاؤس کینہی
 چہی ناست یم، زہ د ہغہی بی وسو پینتنو، د ہغہ مزدور کارو پینتنو، د ہغہی
 کسانانو دلته کینہی نمائندہ ناست یم او دہی د پارہ ناست یم چہی د ہغوی د حقوقو
 د پارہ د دہی صوبہی د خلقو د پارہ بہ خبرہ کوم او دلته کینہی بہ آواز او چتوم، د
 ہغوی نمائندگی بہ کوم جناب سپیکر! (تالیاں) او ہغہ نمائندگی چہی دہ
 جناب سپیکر! ہغہ ما مجبورہ وی چہی داسہی قسمہ قانونونہ دوئی پاس کوی،
 داسہی قسمہ دغہ کوی نو د ہغہی کم از کم بیا مونر حصہ نشو جو ریڈہی جناب
 سپیکر۔ جناب سپیکر! دلته کینہی خبرہ اوشوہ چہی بابک صاحب ہم خبرہ کپہی وہ
 او مونر ہم خبرہ کپہی وہ چہی یرہ بعضی قانونونو سرہ زمونر اتفاق دے خو کم از
 کم دہی Bill سرہ، دہی Tenancy Act کینہی چہی دا کوم ترامیم کپری لگیا دی،
 دہی سرہ زمونر اتفاق نشتنہ بالکل جناب سپیکر، او نہ دہی سرہ زہ اتفاق کولے شم
 جناب سپیکر۔ (تالیاں) جناب سپیکر! دا نن ورخ یاد ساتی، دا موقع یاد
 ساتی، دوئی خود عجلت نہ کار اخلی، دوئی خود دیکینہی د بلڈوزنگ نہ کار اخلی
 خو جناب سپیکر! دا تاسو یاد ساتی، د دہی Repercussions بہ بیا تاسو تہ
 معلومپری چہی بیا بہ د دہی نہ خہ جو پیری او خہ بہ دغہ کپری، دا بہ کور پہ کور
 او کلی پہ کلی دیکینہی لاء اینڈ آرڈر سچویشن بہ جو پیری، دیکینہی بہ پہ دہی
 صوبہی کینہی بہ بیا یو اور لگی جناب سپیکر، زہ اوس ہم تاسو تہ دا وایم چہی پہ
 دہی بانڈہی سوچ او کپہی او د سراج صاحب کہ دا خیال دے چہی مونر بہ پہ دہی چپ
 شو، نو مونر د دہی Bill بالکل، زہ خو بہ مخالفت کوم، ہر حالت کینہی بہ د دہی
 مخالفت کوم۔

جناب سپیکر: سکندر شیرپاؤ صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس بل کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے، جو اس کے حق
 میں ہیں، وہ 'ہاں' میں جواب دیں۔

اراکین: یس۔

جناب سپیکر: جو اس کے مخالف ہیں، وہ 'ناں' میں جواب دیں۔

اراکین: No۔ (تحریک مسترد کی گئی)

جناب سپیکر: Motion is defeated، لہذا میں Consideration کیلئے ہاؤس میں پیش کرتا ہوں

The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa, Tenancy (Amendment) Bill, 2014, may be taken into consideration at once? Those who are in favour of it may say 'Aye' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. Consideration Stage: Since no amendment has been moved by any honorable Member in clause 1 to 3 of the Bill, therefore, the question before the House is that clauses 1 to 3 may stand part of the Bill? Those who are in favour of it may say 'Aye' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. Clauses 1 to 3 stand part of the Bill. Long Title and Preamble also stand part of the Bill.

(Applause)

خیبر پختونخوا ٹیننس (ترمیمی) بل مجریہ 2014 کا پاس کیا جانا

Mr. Speaker: Passage Stage: Honorable Minister for Revenue, to please move for passage of the Bill.

جناب علی امین خان (وزیر مال و املاک): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جناب سپیکر! میں خیبر پختونخوا

Tenancy (Amendment) Bill, 2014 کو پاس کرانے کیلئے تحریک پیش کرتا ہوں۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa, Tenancy (Amendment) Bill, 2014, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Aye' and those who are against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The Bill is passed. (Applause)

The sitting is adjourned till 3.00 p.m. of tomorrow afternoon.

(اجلاس بروز بدھ مورخہ 19 مارچ 2014ء بعد از دوپہر تین بجے تک کیلئے ملتوی ہو گیا)